

اچھا ہوتا کہ رسالہ اشراقِ رحمن ۸۸، کا مضمون "تصوف اسلام کے متوازی ایک دین ہے" پہلے چھپ کر مولف کی نظر سے گزر چکا ہوتا۔

پہلی کرن | از جناب اظہر وجید - ناشر: ادارۃ الحفاظ، اہل روڈ، لاہور - قیمت: ۳ روپے  
اُردو ادب میں پہلے کسی ایسے تجربات ہوتے ہیں کہ مختلف ذرہ ہائے حقیقت کو الگ الگ بیان کرنے کے لیے خصوصی توجہ حاصل کی جائے۔ ایسی ایک سفری، دو سفری باتوں کو بالعموم بزرگ درویشوں کے منصوفانہ انداز میں لکھا جاتا اور تصوف کے ساتھ تحریر میں فلسفہ مزور را، پاجاتا ہے۔

اس سلسلے کے اولین تجربات ادب لطیف نامی صنف کے تحت ہوئے، بعد ازاں خاص نامی لکھنے والوں نے اپنی تحریروں کے اندر کہیں کہیں اس طرح کے جملے سمویئے ہیں۔ ایک زمانے میں "سیر فیانہ" جو چھوٹی چھوٹی چارہ پانچ سلاؤں پر مشتمل ہوتا تھا، بہت مقبول رہا۔ اب واصف علی واصف صاحب اس طریقہ بیان کو مجسّمی طور پر استعمال کر کے خراجِ تحسین لے رہے ہیں۔ اظہر وجید نے بھی باقاعدہ پیری مریدی کی صوفیانہ اصطلاحوں کے ساتھ واصف صاحب کے رنگ میں یہ کتاب لکھ ڈالی ہے۔ کوشش خوب ہے۔ خدا کرے کہ مزید ترقی کریں۔ ویسے انہی حقائق کو ایک ایک رباعی میں بیان کر دیا جائے تو لوگوں کے لیے یاد رکھنا آسان ہوتا ہے۔ ورنہ لطیف سی ادبی عبارات کا وقتی لطف لے کر وہ انہیں بھول جاتے ہیں۔

شہدائے کربلا پر افسر | از مولانا محمد عبدالرشید نعمانی - ناشر: اہل سنت و جماعت، ۳۸۷، قاسم آباد، لیاقت آباد، کراچی ۱۹۔ قیمت درج نہیں۔

حضرت امام حسینؑ کی مظلومیت دوسری ہے، ایک رافضیت کے مخالف، دوسری ناصبیت کے مخالف ہے۔ ناصبیت کا فتنہ پاکستان میں ایک حد تک تو موجود رہا، مگر واضح طور پر سطح کے اوپر پہلے طوفان پہلی مرتبہ محمود عباسی اور ہوی کی کتاب "اندقت معاویہ و یزید" کی اشاعت سے پیا ہوا۔ اور کمیونسٹوں اور منکرینِ حدیث نے ان کی پشت پناہی کی۔

میں نے "اندقت معاویہ و یزید" پڑھی ہے، اس کے مولف نے پورا مقدمہ ہی الٹ دیا ہے۔ یعنی نعوذ باللہ امام حسینؑ اور حضرت علیؑ اور ادھر کی ساری موقر ہستیاں تو نشانہ الزام ہیں، البتہ یزید مرتد ہے۔